



### برامپٹن کے 2022 میونسپل اور اسکول بورڈ انتخابات کے لیے امیدواروں کی باضابطہ فہرست

برامپٹن، آن (23 اگست 2022) – برامپٹن کے 2022 میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات کے لیے نامزدگی گزشتہ ہفتے بروز جمعہ 19 اگست کو بند ہو گئی تھیں۔

سٹی کلرک کی جانب سے مصدقہ امیدواروں کی باضابطہ فہرست [سٹی کی ویب سائٹ پر](http://www.brampton.ca/bramptonvotes) [www.brampton.ca/bramptonvotes](http://www.brampton.ca/bramptonvotes) پر دستیاب ہے۔

#### بلا مقابلہ انتخاب

میونسپل الیکشنز ایکٹ 1996، کے مطابق اگر نامزدگی کے دن کے بعد آنے والے پیر کے دن شام 4 بجے تک کسی عہدے کے لیے مصدقہ امیدواروں کی تعداد انتخابی نشستوں کی تعداد کے برابر یا کم ہو، تو کلرک کو فوراً ایسے امیدوار یا امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب شدہ قرار دینا چاہیے۔ Conseil scolaire Viamonde کے ٹرسٹی کے دفتر کے لیے صرف ایک نامزدگی موصول ہوئی ہے۔ لہذا یہاں پر کامیاب امیدوار، ویون روچفورٹ (Yvon Rochefort) کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے۔

#### شمہ سرخیاں

- میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات برائے 2022 بروز پیر، مورخہ 24 اکتوبر کو منعقد ہوں گے۔ ووٹ دینے کے اوقات صبح 10 تا رات 8 بجے تک ہوں گے۔
- ووٹنگ کے مقام کی معلومات سٹی کی ویب سائٹ پر ستمبر میں دستیاب ہوں گی۔
- اگر آپ 24 اکتوبر کو ووٹ نہیں دے سکتے، تو 7، 8، 9، 14 یا 15 اکتوبر کو ایڈوانس ووٹنگ کے دنوں میں سے کسی ایک پر ووٹ دینے کا سوچیں۔ ایڈوانس ووٹنگ کے مقام کی معلومات سٹی کی ویب سائٹ پر ستمبر میں دستیاب ہوں گی۔ ایڈوانس ووٹنگ کمیونٹی کے ایسے اراکین کے لیے بھی اچھا انتخاب ہے، جو دیوالی اور بندی چھوڑ دیواس مناتے ہیں، جو اس سال ووٹنگ کے دن پر ہی آتے ہیں۔
- پراکسی ووٹنگ: اگر آپ ایک اہل برامپٹن ووٹر ہیں، جو ووٹنگ کی تاریخوں یا ایڈوانس ووٹنگ کی کسی بھی تاریخ پر نہیں آ سکتے، تو آپ اپنی جانب سے ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے اہل برامپٹن ووٹر کو مقرر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص، جس کا نام ووٹرز لسٹ میں ہو یا جسے ووٹرز لسٹ میں شامل کیا گیا ہو، پراکسی کے ذریعے ووٹ دے سکتا ہے۔ پراکسی ووٹنگ کے متعلق مزید معلومات جلد ہی سٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔
- ہوم ووٹنگ سروس: اہل ووٹرز، جو بیماری، چوٹ یا معذوری کی وجہ سے گھر میں محدود ہیں، 11، 12 اور 13 اکتوبر کو ہوم ووٹنگ سروس کے ذریعے ووٹ دینے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اہلیت کی شرائط پر پورا اترنے والوں کے لیے محدود اپوائنٹمنٹس دستیاب ہوں گی۔ اس سروس اور اپوائنٹمنٹ کے عمل کے متعلق مزید معلومات جلد ہی سٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔
- اپنی آئی ڈی لائیں: ووٹرز کو ووٹ دینے کے لیے اپنا نام اور اہلیت والا برامپٹن کا پتہ ظاہر کرنے والی کوئی شناختی دستاویز ساتھ لانی ہو گی۔ ووٹ دینے سے پہلے اپنی شناخت کی [قابل قبول دستاویزات](#) کی فہرست ملاحظہ کریں۔
- میونسپل الیکشن ورکر بننے اور ووٹنگ کے دن پر انتظامی اور کسٹمر سروس کے افعال میں مدد دینے کے لیے ابھی درخواست دیں۔ 2,000 سے زیادہ آسامیاں خالی ہیں۔ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے برامپٹن کے رہائشیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ نئی مہارتیں حاصل کرنے، سٹی کے عمل کو پہچاننے اور اپنی کمیونٹی سے مربوط ہونے کا یہ سنہری موقع ہے۔
- فریق ثالث کی تشہیر: فریق کے ممکنہ ایڈورٹائزرز برامپٹن میں تشہیر کرنے کے لیے 21 اکتوبر تک رجسٹریشن جمع کروا سکتے ہیں۔ فریق ثالث کی تشہیر کی اہلیت کے تقاضوں اور رجسٹریشن کے عمل کے متعلق معلومات [یہاں](#) دستیاب ہیں۔

2022 میونسپل اور اسکول بورڈ الیکشن کے متعلق مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca/bramptonvotes](http://www.brampton.ca/bramptonvotes) ملاحظہ کریں۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ  
سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)